

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أعوذ (ن) کسی کی پناہ میں آنا اعوذ ب کسی کی پناہ میں آنا۔ اعوذ من جس سے پناہ چاہئے۔ فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنا۔ أعتصم وأتحصن، وأصله أعوذ علی وزن أفعّل۔

اللہ (ن) علم یختص بالمعبود دون غیرہ، قال بعضهم إنه مشتق وقيل غير ذلك۔
باللہ (ن) لفظ الجلالة فی محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بأعوذ۔

الشيطان (ن) کسی سے دور ہونا۔ (ض) ہلاک ہونا۔ فعلان
ابلیس مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے بل س (افعال) غمگین ہونا
من الشيطان (ن) جار ومجرور متعلقان بأعوذ أيضا۔

(الرجيم) ر ج م (ن) سنگسار کرنا، دھتکارنا۔ فعیل کے وزن میں، اسم مفعول مرجوم کے معنی میں۔ فعیل بمعنی مفعول أي مطرود من رحمة الله أو بمعنی فاعل وهو الطارد لغيره۔

صفة للشيطان وجملة أعوذ ابتدائية لا محل لها من الإعراب۔


سورة الفاتحة

(1:1:4)
I-rahīmi
the Most Merciful.

(1:1:3)
I-rahmāni
the Most Gracious,

(1:1:2)
I-lahi
(of) Allah,

(1:1:1)
bis'mi
In (the) name




بسم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. والمبتدأ محذوف تقديره : ابتدائي « اگر جملہ اسمیہ تو مبتدا محذوف، جیسے ابتدائی، اگر جملہ فعلیہ تو فعل محذوف جیسے اَبْتَدِءُ

اللہ لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. *الرحمن* نعت لفظ الجلالة تبعه في الجر. *الرحيم* نعت ثان للفظ الجلالة تبعه في الجر.

اسم (س م و) نام، کسی چیز کی علامت جو اسے نمایاں کر دے۔ فيه إبدال، أصله سمو، حذف حرف العلة وهو لام الكلمة وأبدل عنه همزة الوصل. ودليل الواو جمعه على أسماء وأسامي، وتصغيره سمى. والأصل أسماو وأسامو وسموي، فجرى فيها الإعلال بالقلب. *اللہ* .. أصله الإلاه، نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف ثم سكنت وحذفت الألف الأولى لالتقاء الساكنين وأدغمت اللام في اللام الثانية ..

وحذفت الألف بعد اللام الثانية لكثرة الاستعمال. فالإله مصدر من أله يأله إذا عبد، والمصدر في موضع المفعول أي المعبود. *الرحمن* (رح م) س مہربانی کرنا، رحم دل ہونا صفة مشتقة من صيغ المبالغة، وزنه فعلا ن شدت كما مفهوم من فعل رحم يرحم باب فرح. *الرحيم* صفة مشتقة من صيغ المبالغة، أو صفة مشبهة باسم الفاعل وزنه فعي ل من فعل رحم يرحم.



سورة الفاتحة *1* : آية 2

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *2*

الإعراب :

الحمد مبتدأ مرفوع. *للہ* جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره ثابت أو واجب. *رب* نعت لفظ الجلالة أو بدل من لفظ الجلالة تبعه في الجر وعلامة الجر الكسرة. *العالمين* مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

وجملہ : « الحمد لله .. » لا محل لها ابتدائية.

الصرف :

* الحمد* (ح م د) (س) محسن کی تعریف کرنا۔ لام جنس مصدر سماعی لفعل حمد یحمد باب نصر وزنه فعل بفتح فسکون.

* رب* رَبِّ تربیت کرنے والا، درجہ بدرجہ نشوونما دے کر کمال تک پہنچانا۔ مصدر، بطور اسم الفاعل۔ مصدر یرب باب نصر ، ثم استعمل صفة كعدل وخصم ، وزنه فعل بفتح فسکون . انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے رب البیت، مگر ال کے ساتھ صرف اللہ کے لئے۔

* العالمین* (ع ل م) (ن-ض) نشان لگانا۔ پہچان بنانا جمع العالم ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، وهو مشتق إما من العلم بكسر العين أو من العلامة ، وزنه فاعل بفتح العين ، وكذلك جمعه.

الف لام کے مختلف اقسام میں سے چار اقسام

استغراقی۔ کُل /ام کے معنی۔ (استغرا۔ ڈوب جانا) مثلاً ان الانسان لفی خسر

جنسی۔ ہر فرد نہیں بلکہ جنس انسان۔ ارجل خیر من البرة۔

ذہنی۔ ہو کوئی فرد مگر معنی متعین نہ ہو۔ فاکلہ الذئب۔ کھایا تو ایک بھیڑیے نے مگر کون سے بھیڑیے نے، یہ نہیں علم خارجی۔ خارج کے اندر معنی متعین ہے۔ فعضی فرعون الرسول۔ رسول ہیں موسیٰ، متعین ہیں۔

عام تفسیر یہ کہ الحمد میں الحمد میں ال، استغراقی ہے، ابن کثیر اس رائے کے حامی، دلیل یہ حدیث کہ اللہ الملک الحمد لہ، اے اللہ تیرے لئے ساری تعریف۔ یہی تعبیر شیخ الہند محمود الحسن۔ سوال یہ ہے اگر ساری تعریف ساری خوبیاں اللہ کے لئے تو مخلوقات کے کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو خالق کو نہیں مثلاً اولاد، وغیرہ۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف دو طرح کی ہے۔ بلا واسطہ اللہ کی صفات اور خوبیاں۔ اور بلا واسطہ۔ مخلوق کی ساری خوبیاں اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ مگر یہ جواب خاصا پر تکلف ہے۔ ترجیح دیتے ہیں ال خارجی کو۔ تمام تعریفیں کے بجائے خاص تعریفیں۔ خدائی الوہیت کی تمام تعریفیں۔ حمد اعتقادی قولی عملی، خاص ہے اللہ کے لئے مظاہر عبادت صرف اللہ کے لئے۔ ترجمہ تمام الوہیت کی تعریفیں خاص (لام تخصیص) اللہ ہی (مبتدا خبر دونوں معرفہ) کے لئے ہے۔ (استاذ نور الاسلام)

(1:3:2)
I-rahīmi
the Most Merciful.

(1:3:1)
al-rahmāni
The Most Gracious,

(1:2:2)
lillahi
(be) to Allah,

الرَّحِيمِ

ADJ

الرَّحْمَنِ

ADJ

(لِلَّهِ)

PN P

صفة

محرور


صفة

سورة الفاتحة *1* : آية 3

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *3*

الإعراب :

الرحمن نعت للفظ الجلالة أو بدل من لفظ الجلالة ومثله الرحيم. . *الرحيم* نعت ثان للفظ الجلالة.



سورة الفاتحة *1* : آية 4

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *4*

الإعراب :

مالك نعت للفظ الجلالة أو بدل من لفظ الجلالة. محجور مثله.

يوم مضاف إليه محجور وعلامة الجر الكسرة.


الدين مضاف إليه محجور وعلامة الجر الكسرة.

الصرف :

مالك (م ل ك) (ض) مالك هونا- غالب هونا اسم فاعل من ملك يملك على معنى الصفة المشبهة لدوام الملكية ، باب ضرب وزنه فاعل جمعه مَلَّاك ومالكون.

يوم اسم. بمعنى الوقت المحدد من طلوع الشمس إلى غروبها أو غير المحدد. وهنا جاء. بمعنى يوم القيامة. وجمعه أيام ، وجمع الجمع أيأويم.

الدين *دين* : بدله ضابطه (ض) قرض دينا مصدر دان يدين باب ضرب. بمعنى جزى وأطاع أو خضع ، وزنه فعل بكسر الفاء وسكون العين ، وثمة مصدر آخر للفعل هو ديانة بكسر الدال. والدين معناه الجزاء أو الطاعة ، وقد يكون بمعنى الملة أو العادة.



سورة الفاتحة *1* : آية 5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *5*

الإعراب :

إِيَّاكَ ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم ، أو *إِيَّا* ضمير مبني في محل نصب مفعول به ،
و*الكاف* حرف خطاب. *نعبد* فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن و*الواو* عاطفة. *إياك
نستعين* تعرب كالسابق.

وجملة : « إياك نعبد .. » لا محل لها استئنافية.

وجملة : « إياك نستعين .. » لا محل لها معطوفة على جملة إياك نعبد.

الصرف :


نعبد (ع ب د) (ن) بندگی کرنا۔ غلامی کرنا۔ احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا۔

نستعين ، (ع و ن) (استفعال) مدد مانگنا۔ مدد چاہنا جب ضمیر مفعولی اِیَّا کے ساتھ منفصل کی جائے گی تو وہ فعل سے پہلے آئے گی دو استثنائت کے علاوہ فیہ اِعلال
أصله نستعون من العون ، بكسر الواو ، فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى العين وسكنت الواو - وهو اِعلال بالتسكين - ثم
قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها - وهو اِعلال بالقلب - .

(1:6:3)
I-mus'taqīma
the straight.

(1:6:2)
I-ṣirāṭa
(to) the path,

(1:6:1)
ih'dīnā
Guide us



سورة الفاتحة *1* : آية 6

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *6*

الإعراب :



أهد فعل أمر دعائي مبني على حذف حرف العلة ، و *نا* ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. *الصراط* مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الفتحة الفعل *هدى* يتعدى إلى المفعول الثاني من غير حرف جر أو بحرف الجر اللام أو بحرف الجر إلى. جاء في المحيط : هداه الله الطريق وله وإليه. *المستقيم* نعت للصراط منصوب مثله وعلامة النصب الفتحة.

والجملة : لا محل لها استئنافية.

الصرف :

أهدنا (هدى) (ض) امر - راه نمائی کرنا - راستہ سمجھا دینا - راستہ پر دل کو کھول دینا - منزل تک پہنچا دینا - فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء ، أصله في المضارع المرفوع تهدينا ، وزن اهدنا فعنا *الصراط* ، (س رط) (ن) (س) هو بالسين والصاد ، وفي قراءة الصاد إبدال حيث قلبت السين صادًا لتجانس الطاء في الإطباق.

المستقيم ، (ق وم) (استفعال) اسم فاعل من استقام - ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ہو کر سیدھا ہونے والا ، ب طور صفت بھی استعمال ہوتا ہے یعنی - ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ، سیدھا - فهو على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره .. وفيه إعلال ، أصله مستقوم - بكسر الواو - لأن مجرد فعله قام يقوم ، ثم جرى فيه ما جرى في نستعين.



سورة الفاتحة *1* : آية 7

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *7*

الإعراب :

صراط بدل من صراط الأول تبعه في النصب ، وعلامة

نصبه الفتحة. *الذين* اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. *أنعمت* فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، و*التاء* ضمير متصل في محل رفع فاعل. *عليهم* ، *على* حرف جر و*الهاء* ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بـ *على* متعلق بـ *أنعمت* ، و*الميم* حرف لجمع الذكور *غير* بدل من اسم الموصول *الذين* تبعه في الجر أو بدل من الضمير في *عليهم* ، أو نعت لاسم الموصول. وهذا الأخير مردود عند المبرد لأن . *المغضوب* مضاف إليه مجرور *عليهم* كأول في محل رفع نائب فاعل للمغضوب ، *الواو* عاطفة *لا* زائدة لتأكيد النفي *الضالين* معطوف على *غير* مجرور مثله وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم.

وجملة : أنعمت عليهم ... لا محل لها صلة الموصول.

الصرف :

أنعمت (ن ع م) (افعال) خوش حال کرنا۔ نعمت دیا۔

المغضوب ، (غ ض ب) (س) اسم المفعول۔ غضب کیا ہوا اسم مفعول من غضب باب فرح ، وزنه مفعول.

الضالين ، (ض ل ل) (ض) گمراہ ہونا جمع الضال وهو اسم فاعل من ضلّ يضلّ باب ضرب وزنه فاعل ، وأدغمت عين الكلمة في لامه لألھما الحرف ذاته.

غیر کی جرتا رہی ہے کہ یہ الذین پر عطف ہے جو محلا حالت جر میں ہے (صراط کا مضاف الیہ)۔ اس لئے ترجمہ ہوگا "جن پر غضب نہیں کیا گیا"۔ اگر غیب ہوتا تب یہ صراط پر عطف ہوتا، پھر یہ ترجمہ ممکن ہوتا "نہ راستہ ان لوگوں کا۔ الضالین کی حالت جر بھی غیر پر عطف ہونے کی وجہ سے ہے۔

غیر اسم مفرد مذکر دائما ، قد يكون نعتا وقد يكون أداة استثناء ..

فاذا أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه. تقول : قامت غير هند

غیر عندہ لا يكون إلا نكرة وإن أضيفت ، والاضافة فيه لفظية و*الذين* معرفة .. وقد أوجب عن هذا الاعتراض بجوابين :
الأول : أن *غیر* يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدين ، فاذا وقع - كما في الآية السابقة - فقد انحصرت الغيرية ، فيتعرف حينئذ بالاضافة.

الثاني : أن الموصول أشبه النكرات بالإبهام الذي فيه ، فعومل معاملة النكرات.

و تعني بذلك امرأة .. وهو ملازم للإضافة لفظا وتقديرا. فإدخال الألف واللام عليه خطأ.

سورة الفاتحة:

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (1) سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (2) بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا (3) بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے (4) ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں (5) ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ دکھا (6) ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا (یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا، مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے) اور نہ گمراہوں کی (یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے) (7) (جو ناگڑھی)

تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم :- قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے (اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم) ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے آیت (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 98) 16- النحل: 98) 'جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے' اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ (تیسیر القرآن)

للفاتحة أسماء عدة : فاتحة الكتاب ، وأم القرآن ، وأم الكتاب ، وسورة الكثر ، وسورة الحمد والشكر والدعاء ، وسورة الصلاة وسورة الشفاء ، والسبع المثاني .

الْحَمْدُ فِي 'ال' مخصوص کے لئے ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یا اس کے لئے خاص ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اس لئے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس کا استعمال کسی اور کے لئے جائز نہیں۔ (احسن الکلام)

إن جملة الْحَمْدُ لِلَّهِ خبر ، لكنها استعملت لإنشاء الحمد وفائدة الجملة الاسمية ديمومة الحمد واستمراره وثباته. وفي قوله « لله » فن الاختصاص للدلالة على أن جميع المحامد مختصة به سبحانه وتعالى.

رحمن مبالغہ کا صیغہ ہے اور رحیم صفت کا۔ رحمن اللہ کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کرتا ہے اور رحیم اس کے دوام و تسلسل کو، اللہ کی رحمت میں صرف جوش ہی نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر دی اور پھر پیدا کر کے اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو بلکہ اس کو پیدا کر کے وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اس چند روزہ زندگی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی لازوال اور ابدی زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ (الکتاب)

سیدھی راہ کون سی ہے؟ :- صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ اور اس میں کوئی تیج و خم یا افراط و تفریط نہیں اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے جبکہ باطل راہیں لاتعداد ہوتی ہیں۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے جبل اللہ بھی فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا آتَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي سے تعبیر فرمایا ہے اور صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وحی کیا گیا ہے۔ (تیسیر القرآن)

آیت میں جمع متکلم کے صیغہ استعمال ہوئے ہیں۔ واحد متکلم کے نہیں ہوئے۔ کیونکہ اسلام نماز باجماعت کی بھی تاکید کرتا ہے اور معاشرتی اجتماعی زندگی اور نظم و ضبط کی بھی۔ علاوہ ازیں (نَعْبُدُ) کے فوراً بعد (نَسْتَعِينُ) کا لفظ لایا گیا تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ (تیسیر القرآن)

دین کے مختلف معانی :- دین کا لفظ قرآن میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں استعمال ہوا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اسی کا دوسرا پہلو یا لازمی نتیجہ ہے۔

(۲) انسان کی مکمل عبودیت جیسے ارشاد باری ہے:

(فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ 39- الزمر: 2) 'الذخا الصلتاً اسی کی عبادت کرو۔ سن لو مکمل حاکمیت خالصتہ اللہ ہی کے لئے ہے' ان دونوں آیات میں دین کا لفظ مذکورہ

بالا دونوں معنی دے رہا ہے۔

(۳) قانون سزا و جزاء یا تعزیرات جیسے ارشاد باری ہے:

(مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاكَ فِى دِينِ الْمَلِكِ 76) 12- يوسف: 76) 'اس (سیدنا یوسف علیہ السلام) کی شان کے لائق نہ تھا۔ ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے

بھائی کو رکھ سکتا'

(۴) قانون سزا و جزاء کو نافذ کرنے کی قوت، جیسے ارشاد باری ہے:

(فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ 86) 56-الواقعة: 86) 'پھر اگر تم سچے ہو اور قانون کی گرفت سے آزاد ہو تو (جب جان لبوں پر آجاتی ہے) اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے؟'

اور اس آیت میں دین کا لفظ مندرجہ بالا چاروں معنی دے رہا ہے۔ (تیسیر القرآن)

عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) پوجا اور پرستش (۲) اطاعت اور فرمانبرداری (۳) بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں۔ یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ (تفہیم القرآن)

سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھادی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورۃ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمہ کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما اور جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی دعا تو نے مجھ سے کی ہے۔ (الکتب)

اس سورت کے ختم پر لفظ اٰمِن کہنا مسنون ہے اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ "الہی ایسا ہی ہو" یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور

نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو اس سورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت اور دوسرے حصہ میں بندہ کے لیے دعا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وقد ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله « صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قوله: « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي

وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ: فَنَصَفْتُهَا لِي وَنَصَفْتُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللهُ: حَمْدِي

عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، قَالَ اللهُ: أَتْنِي عَلَيَّ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: مَالِكُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ اللهُ مَجْدِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. قَالَ: هَذَا الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. »

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان (نصف نصف) بانٹ لیا ہے اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ آیت (الحمد لله رب العالمين) کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے آیت (الرحمن الرحيم) اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے آیت (مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ آیت (ایک نعبد وایک نستعین) کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لئے ہے۔ (ابن کثیر)

سورۃ س و ر۔ سُوْدُ بلند منازل میں سے ایک منزل۔ سو بمعنی دیوار کے بھی ہے۔ سور البلد بمعنی کسی چہر کی دیوار۔ قرآن کی ہر سورت، مکمل فصاحت و بلاغت و

اعجاز کے لحاظ سے عظمت و شان والی ہے، اس لئے اسے سورت کہا جاتا ہے۔ (2) سء ر سُوْدُ کسی شے کا باقی ماندہ حصہ یا ٹکڑا۔ کسی چیز کے جھوٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔

اصطلاح میں قرآن کا وہ حصہ جس کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہو اور کم از کم 3 آیات پر مشتمل۔ آیت: بمعنی نشانی اور علامت۔ اصطلاحاً ایک مستقل جملہ جو قرآن میں موجود ہوتا ہے۔

جناب لطف الرحمان صاحب کے کورس کے نوٹس: مطالعہ قرآن حکیم خط و کتابت کورس

<http://corpus.quran.com/treebank.jsp?chapter=1&verse=1>

الجدول في إعراب القرآن الكريم

صافى محمود بن عبد الرحيم

<http://adel-ebooks.mam9.com/>

<http://b.m93b.com/>

<http://www.quranexplorer.net/quran/>

Easy Quran Wa Hadeeth